

Paper Code :- CC-11/AR-302 Dr. Shabnam  
Fatma

TOPIC :- Al-Ibrat (Translation & Explanation  
of Text)

part -10

” الحيرة ”

رات میں کام کرنے اور ضرورت پورا کرنے

کے لئے اور یہ (code word) ہر رات بدلتا رہتا

ہے۔ کسی رات لفظ ”لُدْس“ سے تاج تو کسی رات

”قصار“ کسی رات ”سمام“ تو کبھی ”فواخ“ اور

اس طریقے کے بے شمار الفاظ۔

عربی میں ”سمام“ :- تمباری گفتگو سے ایسا محسوس

ہو رہا ہے کہ اب باشندگان مصر سے نہیں ہیں۔

اور یہ الفاظ سوائے کفار کے کسی اور پر

بولیں جائیں مجھے یہ نہیں معلوم  
cont

اور نہیں ہیں ان کو رات میں چلنے کے لئے لوگوں  
کو اجازت طلب کرنے پر سن رکھا ہے۔ گفتگو چلتی  
رہی یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی یہاں تک کہ  
ان لکھات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔

باشا: - اس سلسلے میں سارے کے ذمہ دار تم

ہی ہو۔  
عسی بن مشام: - کہتے ہیں کہ ہم رات میں چلنے

رہے اور باشا مستقل اپنا ٹریف سچو سے

کراتے رہے اور سچو پر جنگوں کی خبریں اور واقعات

اور ۵۹ واقعات جس کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے

مشاہدہ کیا ہے اور کانوں سے سنا ہے بیان کرتے

رہے۔ اور صحیفے محمد علی کے کارنامے اور سنجاعت

(Cont)...